

کل نمبر: 20

نوٹ: اپنی جوابی شیٹ کے پہلے صفحے پر اپنا نام، اپنا رول نمبر، اسٹڈی سینٹر کا نام اور مضمون کا نام صاف الفاظ میں لکھئے۔  
تمام سوالات لازمی ہے۔ ہر سوال کے نمبر اس کے سامنے دئے گئے ہیں۔

سوال نمبر- ۱ درج ذیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب ۴۰ سے ۶۰ الفاظ میں دیجیے۔ 2

الف- صحت مندرہنے کے لئے کیا کرنا چاہئے۔ آپکے سبق 'انسان دیروز، انسان امروز' سے اسکا جواب تحریر کیجیے۔

(سبق نمبر ۵ دیکھیں)

یا

ب- فارسی میں سال کے چاروں موسموں کے نام بتائیں

(سبق نمبر ۷ دیکھیں)

سوال نمبر- ۲ درج ذیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب ۴۰ سے ۶۰ الفاظ میں دیجیے۔ 2

الف- فارسی مہینوں کے نام لکھئے۔

(سبق نمبر ۷ دیکھیں)

یا

ب- فعل ماضی مطلق مجہول بنانے کا طریقہ بیان کیجئے اور مثال سے اسے واضح کیجئے۔

(سبق نمبر ۵ دیکھیں)

سوال نمبر- ۳ درج ذیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب ۴۰ سے ۶۰ الفاظ میں دیجیے۔ 2

الف۔ فردوسی نے ورزش کے فائدے کے بارے میں کیا کہا ہے۔؟

(سبق نمبر ۹ دیکھیں)

یا  
ب۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے فارسی متبادل تحریر کیجئے۔

آفتاب      رستخیز      عالم      اعظم

(سبق نمبر ۱۲ دیکھیں)

4

سوال نمبر۔ ۴ درج ذیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب ۱۰۰ سے ۱۵۰ الفاظ میں دیجئے۔

الف۔ ورزش کے فائدوں کو بیان کیجئے۔

(سبق نمبر ۹ دیکھیں)

یا

ب۔ درج ذیل الفاظ سے فارسی جملے بنائیے۔

پانچ      پرش      دانشمند      فلسوف

(سبق نمبر ۱۶ دیکھیں)

4

سوال نمبر۔ ۵ درج ذیل میں سے کسی ایک حصے کا جواب ۱۰۰ سے ۱۵۰ الفاظ میں دیجئے۔

الف۔ ویٹامن C کے اہم ترین منابع کو بیان کیجئے۔

(سبق نمبر ۲۵ دیکھیں)

یا

ب۔ فعل امر کی تعریف اور بنانے کا قاعدہ لکھئے۔

(سبق نمبر ۲۰ دیکھیں)

6

سوال نمبر۔ ۶ پروجکٹ ورک۔

مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک کا جواب ۱۵۰ الفاظ میں دیجئے۔

الف۔ اپنے دوست کی سالگرہ پر اس کو مبارکباد کا خط لکھئے۔

(سبق نمبر ۳۰ دیکھیں)

ب۔ علامہ اقبال کی نظم 'از خواب گران خیز' سے آپ کیا سمجھے، اپنے الفاظ میں بیان کیجئے۔

(سبق نمبر ۲۸ دیکھیں)

---